



✍️ Nina Orange
 🗣️ Wiehan de Jager
 📖 Samrina Sana
 😊 Urdu
 📖 Level 4



ذہرائق! ہمنہ کرہ




Storybooks UK

global-asp.github.io/storybooks-uk


ذہرائق! ہمنہ کرہ

Written by: Nina Orange
 Illustrated by: Wiehan de Jager
 Translated by: Samrina Sana

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks UK in an effort to provide children's stories in UK's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>




ایک صحیح موسیٰ کی نانی نے اُسے بلایا، موسیٰ، مہربانی کر کے یہ انڈہ
اپنے امی ابو کے پاس لے جاو۔ وہ تمہاری بہن کی شادی کے
لیے ایک بڑا کیک بنانا چاہتے ہیں۔

- قہر! کہہ رہی ہوئی اور اسے تباہی پہنچا دی جو کئی دنوں
 کے لئے آج کل کے بچوں کے لئے ہے۔ ہتھیاروں کے استعمال سے
 اس میں آج کل کے بچوں کے لئے ہے۔ ہتھیاروں کے استعمال سے
 ہے۔ ہتھیاروں کے استعمال سے ہے۔ ہتھیاروں کے استعمال سے
 ہے۔ ہتھیاروں کے استعمال سے ہے۔ ہتھیاروں کے استعمال سے



- قہر! کہہ رہی ہوئی اور اسے تباہی پہنچا دی جو کئی دنوں
 کے لئے آج کل کے بچوں کے لئے ہے۔ ہتھیاروں کے استعمال سے
 اس میں آج کل کے بچوں کے لئے ہے۔ ہتھیاروں کے استعمال سے
 ہے۔ ہتھیاروں کے استعمال سے ہے۔ ہتھیاروں کے استعمال سے
 ہے۔ ہتھیاروں کے استعمال سے ہے۔ ہتھیاروں کے استعمال سے





یہ تم نے کیا کیا؟ سوسا رویا! یہ انڈہ کیک کے لیے تھا۔ کیک میری بہن کی شادی کے لیے تھا۔ میری بہن کیا کہے گی اگر اُس کی شادی پر کیک نہ ہو؟




اب میں کیا کروں؟ سوسا رویا! وہ گا اے جو بھاگ گئی ایک تحفہ تھی اُس گھاس کے بد اے جو چھے تعمیر کر نے والوں نے دیا۔ تعمیر کر نے والوں نے چھے وہ گھاس اس لیے دی کیونکہ انہوں نے چھے پھل چننے والوں کی طرف سے دی گئی چھڑی کو توڑ دیا تھا۔ پھل چننے والوں نے چھے وہ چھڑی اس لیے دی کیونکہ انہوں نے کیک کے لیے انڈا توڑ دیا تھا۔ کیک شادی کے لیے تھا۔ اب نہ انڈہ ہے، نہ کیک اور نہ ہی کوئی تحفہ۔

۶- همه را از آنجا دور کنید - بگردانید - بکشید -
 شایسته است که آنجا نماند - او را دور کنید -
 و آنجا را به آنجا بگردانید - آنجا را به آنجا بگردانید -



۷- همه را از آنجا دور کنید - بگردانید - بکشید -
 شایسته است که آنجا نماند - او را دور کنید -
 و آنجا را به آنجا بگردانید - آنجا را به آنجا بگردانید -





راستے میں وہ دو مردوں سے ملا جو کہ گھر تعمیر کر رہے تھے۔ کیا ہم یہ مصنوعی چھڑی استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک نے پوچھا؟ لیکن چھڑی گھر تعمیر کرنے کے لیے اپنی مصنوعی نہ تھی اور وہ ٹوٹ گئی۔



گا اے اپنے لالچی پن پر بہت شرمندہ ہوئی۔ کسان اس بات پر راضی ہو گیا کہ گا اے موسیٰ کے ساتھ بطور تحفہ جا اے گی۔ اور اس طرح موسیٰ نے اپنا سفر جاری رکھا۔

ذکر ستر اہل گنہ گری تہ

- بھیجی گئی ہے، یہ ستر تہ، یہ ہذا ستر تہ بہ بنا - اہم


کر گئی چاہی گنہ گری ستر تہ، اور ستر تہ، اہم کر ستر تہ گری چاہی

گنہ گری ستر تہ جو توڑا توڑا ہے، وہ انہما ستر تہ، اہم کر ستر تہ گری چاہی

اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ

یہ ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ

- اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ



ذکر ستر اہل گنہ گری تہ

ہذا ستر تہ، یہ ستر تہ، یہ ستر تہ، یہ ستر تہ، یہ ستر تہ


یہ ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ

- اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ، اہم کر ستر تہ





تعمیر کرنے والے چھڑی توڑنے پر شرمندہ ہوئے۔ ہم تمہاری مدد کیک کے لیے نہیں کر سکتے۔ لیکن تمہاری بہن کے لیے کچھ گھاس ہے۔ ایک نے کہا۔ اور وہی نے اپنا سفر جاری رکھا۔



راستے میں، وہی ایک کسان اور ایک گاؤ سے ملا۔ کیا لذیذ گھاس ہے؟ کیا چھڑے ایک گڈھی مل سکتی ہے؟ گاؤ نے پوچھا۔ لیکن گھاس اتنا مزیدار تھا کہ گاؤ نے سارا کھا گئی۔